



سوال

(285) صبر کرو اور اپنی ماں سے صلہ رحمی کرو

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

میں آپ کی خدمت میں اپنی اور اپنے بھائیوں کی اپنی والدہ کے ساتھ مشکل صورت حال کو پیش کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ والدہ اس قدر کثرت سے ہمیں طعن و تشنیع کرتی اور برے انداز میں پیش آتی ہیں جس کی وجہ سے ہم سے بھی بدتمیزی ہو جاتی ہے ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ اپنی والدہ کے نافرمان قرار پائیں یا اپنے ان شیطانی اعمال کی وجہ سے دنیا و آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ دینی احکام کی پابندی کی وجہ سے والدہ ہمیں طعن و تشنیع کرتی رہتی ہیں اور "مولویوں" کے نام سے ہمیں پکارتی ہیں حالانکہ انہوں نے خود بھی تیسویں پارے کی بہت سی سورتیں حفظ کر رکھی ہیں۔ سوموار اور جمعرات کے علاوہ ہر مہینے کے تین نفل روزے بھی رکھتی ہیں نیز اس کے علاوہ نفل نمازیں ادا کرتی اور نفل روزے بھی رکھتی ہیں۔ ہم اپنے بھائی کے ساتھ جب سفر پر روانہ ہونے لگے تو اس وقت بھی انہوں نے ہمیں طعن و تشنیع کی گالیاں دیں اور مارا پٹا اور وہ ہمارے حسب و نسب میں طعن کرتی اور ہماری عزت پامال کرتی ہیں اور ہمیں ایسی ایسی بدعنائیں دیتی رہتی ہیں کہ کوئی ماں اپنے بچوں کو اس طرح کی بدعنائیں نہیں دے سکتی۔ جس کی وجہ سے ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اسے چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں یا پھر ہمیں موت ہی آجائے تاکہ اس کے شہر سے بچ جائیں اور اب صورت حال بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔۔۔ فضیلتہ الشیخ! ہمیں اپنی والدہ کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ والدہ کے اس طرز عمل اور اپنی زندگی کے حوالہ سے ہم طریق کار اختیار کریں؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اس سوال کے جواب کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو کچھ مذکورہ سوال میں ذکر کیا گیا ہے اگر صحیح ہے تو میں اسے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے برا سلوک کرے گی تو یہ قطع رحمی اور کبیرہ گناہ ہے کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَبَلَّغْ عِسْتِمَٰنَ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِی الْاَرْضِ وَ تَقْتُلُوْا رَاْحِمٰتِمْ ۚ ۲۲ اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ لَعَنَ اللّٰهُ فَاَصْبَحَ اَبْصٰرُہُمْ ۚ ۲۳ ... سورة محمد

”تم سے عجب نہیں ہے کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو ملک میں خرابی کرنے لگو اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان (کے کانوں) کو بہرا اور (ان کی آنکھوں) کو اندھا کر دیا ہے۔“

اور نبی ﷺ نے فرمایا ہے:

((لا یدخل الجنۃ قاطع)) (صحیح البخاری الاواب باب اثم القاطع ح: ۵۹۸۴) و صحیح مسلم البر والصلة باب صلۃ الرحم و تحريم قطعیتنا ح: ۲۵۰۶

”قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔“

ماں کا بچوں کے ساتھ یہ طرز عمل ظلم ہے اور ظلم حرام ہے۔ اس حدیث قدسی میں ہے جسے امام مسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

((یا عبادی! انی حرمت الظلم علی نفسی و جعلتہ بینکم محرماً فلا تظالموا)) (صحیح مسلم البر والصلة باب تحریم الظلم ح: ۲۵۷۷ من حدیث ابی ذر رضی اللہ عنہ)

”اے میرے بندو! میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور تمہارے مابین اسے تمہارے مابین بھی حرام قرار دیا ہے لہذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔“

ظلم قیامت کے دن بہت سی ظلمتوں اور تاریکیوں کا سبب بنے گا۔ غیر اللہ (مخلوق) کے حق میں ظلم کو معاف نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس کا تعلق حقوق العباد کو ادا کرنا از بس ضروری ہے۔ نبی ﷺ نے ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا تھا کہ ”تم مفلس کس کو کہتے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: ”مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم یا ساز و سامان نہ ہو۔“ آپ نے فرمایا:

((ان المفلس من امتی۔ من یاتی یوم القیمة بصلوة وصیام وزکاة ویاتی قد شتم بذا وقفت بذا واکل مال بذا وسفک دم بذا وضرب بذا فیطی بذا من حسناتہ وبذا من حسناتہ فان فیت حسناتہ قبل ان یقضی ما علیہ اخذ من نظایا ہم فطرح علیہ ثم طرح فی النار)) (صحیح مسلم البر والصلة باب تحریم الظلم ح: ۲۵۸۱)

”مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نامزد اور روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ اس حال میں آئے گا کہ کسی کو گالی دی ہوگی کسی پر بہتان لگایا ہوگا کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کو قتل کیا ہوگا اور کسی کو مارا پٹا ہوگا تو اس کو بھی اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی اور اس کو بھی اور اگر اس کے ذمہ حقوق کے پورا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان کے گناہوں کو لے کر اس پر ڈال دیا جائے گا اور پھر اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔“

اس ماں کے اس طرز عمل کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں اس کے نافرمان ہو جائیں گے کیونکہ اکثر و بیشتر حالتوں میں انسانی نفوس ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے۔ لہذا یہ ماں اپنی اولاد کے نافرمانی میں مبتلا ہونے کا خود ہی سبب بنے گی اور پھر اس کے نتیجے میں اپنے بچوں کے ساتھ اس کی زندگی خوش گوار بھی نہیں ہوگی بلکہ ہمیشہ لڑائی جھگڑا ہوتا رہے گا اور اختلافات اور مشکلات میں اضافہ ہوتا رہے گا لہذا اس ماں کو میری نصیحت ہے کہ یہ طرز عمل کو صحیح کر لے اپنے بارے میں اور اپنی اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے اولاد کے ساتھ اپنے تعلقات کو درست کرے اور نکلے ساتھ دستور کے مطابق زندگی بسر کرے تاکہ وہ بھی اپنے حقوق کو ادا کر سکے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر واجب قرار دیا ہے۔

جواب کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس ماں کے بیٹوں اور بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے مقدور بھر کوشش کر کے اپنی ماں سے حسن سلوک کریں۔ ماں کی قطع رحمی کے باوجود جب یہ صلہ رحمی کریں گے تو یہ یقیناً نفع میں رہیں گے نقصان ان کی ماں ہی کو ہوگا لہذا انہیں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید کرتے ہوئے صبر کرنا چاہیے۔ ایک شخص نے نبی ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کے کچھ ایسے رشتہ دار ہیں کہ یہ تو ان سے صلہ رحمی کرتا ہے مگر وہ اس سے قطع رحمی کرتے ہیں یہ ان سے حسن سلوک کرتا ہے مگر وہ اس سے برا سلوک کرتے ہیں یہ ان سے علم و عقل کا معاملہ کرتا ہے مگر ان کا اس سے معاملہ جمالت پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ سن کر نبی ﷺ نے اس شخص سے فرمایا:

((لئن کنت کما قلت، فکما تسفم المل، ولا یزال معک من اللہ ظمیر علیہم، مادمت علی ذلک)) (صحیح مسلم، البر والصلة باب صلۃ الرحم و تحریم قطعہا ح: ۲۵۵۸)

”اگر تمہارا طرز عمل اسی طرح ہے جس طرح تو نے بیان کیا ہے تو گویا تو ان کے چہروں پر گرم راکھ ڈالتا ہے اور جب تک تو اپنے اس حال پر قائم رہے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معاون (فرشتہ) ان کے مقابلہ میں تیری مدد کرتا رہے گا۔“

اور ”المل“ کا معنی ہے گرم راکھ مطلب یہ ہے کہ تیرے لیے غنیمت ہے نہ کہ تاوان؛ کیونکہ نبی ﷺ کا یہ بھی فرمان ہے:



((لیس الوصل بالکافی، ولكن الوصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها)) (صحیح البخاری، الادب، باب لیس الوصل بالکافی، ج: ۵۹۹۱)

”صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلے میں صلہ رحمی کرے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے کہ جب اس سے قطع رحمی کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔“

ان بیٹیوں اور بیٹیوں کو میری نصیحت یہ ہے کہ وہ اپنی اس ماں سے مقدور بھر صلہ رحمی کریں، اس کی بیٹا اور سنگ دلی پر صبر کریں اور انتظار کریں کہ اللہ تعالیٰ مخلصی کی کوئی صورت پیدا فرمادے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ... ۳ ... سورة الطلاق

”اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا تو وہ اس کے لیے (رنج و محن) سے مخلصی کی صورت پیدا کر دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے (وہم و گمان) بھی نہ ہو۔“

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاویٰ اسلامیہ

ج 4 ص 223

محدث فتویٰ